

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے کیا لیکن اگر چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہوئے۔ کامیابی، عزت اور شہرت اپ کو کبھی پلیٹ میں رکھے نہیں دی جاتی صرف دولت ہی اپ کو پلیٹ میں رکھے کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے بھی ایک شرط لازم ہے کہ وہ اپکے آباو اجداد کے پاس جانشیداد ہونی چاہیے پھر ہی اپکو دولت ملے گی۔ دولت سے اپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کئی دیاں لگ جاتی ہیں ذلت کمانے میں یا ممتاز بنتے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

History has many examples of people who started their lives with difficult situations but with the passage of time they became successful and famous personalities. It is not easy to get success, honour and popularity through a shorter way except wealth, but there is also a condition to get wealth, that your ancestors must hold it then you get it. You can ~~by~~ buy ~~the~~ world's luxuries from wealth but not happiness. Sometimes it takes decades to make honour. One moment is ~~enough~~ enough to ~~earn~~ commit blunders and dispositions.